

Psa

Chapter 145

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

שְׁמִי	וְאֶבְרַכְהָ	הַמֶּלֶךְ	אֱלֹהֵי	אֲרוֹמְמֶנָה	לְדָוִד	1
تیرے نام کو	اور میں مبارک کہوں گا	اے بادشاہ	اے میرے خدا	میں تجھے سربلند کروں گا	ل داؤد	حمد
H8034	H1288	H4428	H0433		H1732	H8416
					وְעַד:	لְעוֹלָם
					اور ابد	ل ہمیشہ
					H5703	H5769

گا کروں ستائش کی نام تیرے تک ہمیشہ میں بادشاہ، اے گا کروں تعظیم تیری میں خدا، میرے اے گیت کا ثنا و حمد زبور کا داؤد

בְּכֹל-	יָזֶם	אֶבְרַכְהָ	וְאֶהְלֵלָהּ	שְׁמִי	לְעוֹלָם	וְעַד:	2
پ ہر-	دن	میں تجھے مبارک کہوں گا	اور میں حمد کروں گا	تیرے نام کو	ل ہمیشہ	اور ابد	
H3605	H3117	H1288		H8034	H5769	H5703	

گا کروں حمد کی نام تیرے تک ہمیشہ گا کروں تمجید تیری میں روزانہ

נִדְוָל	יְהוָה	וּמְהִלָּל	מְאֹד	וְלִדְוָלָתוֹ	אֵין	חֶקְר:	3
بڑا	یہوواہ	اور بہت سراہا	نہایت	اور اُس کی عظمت کی	نہیں	تلاش	
H3068	H3068		H3966	H1420	H0369	H2714	

ہے باہر سے سمجھ کی انسان عظمت کی اُس ہے لائق کے تعریف بڑی اور عظیم رب

דָּוָר	לְדָוִד	יְשֻׁבַח	מִנְעִשִׁיךָ	וּנְבוֹרֵיךָ	וְנִידוֹ:	4
نسل	ل نسل	تعریف کرے گی	تیرے کاموں کی	اور تیرے قوی کاموں کو	وہ بیان کریں گے	
H1755	H1755		H4639	H1369	H5046	

سنائیں کام زبردست تیرے کو دوسروں وہ ہے، کیا نے تو جو سراہے کچھ وہ سامنے کے پشت اگلی پشت ایک

קִדְר	כְּבוֹד	הוֹדָה	וְדַבָּרֵי	נִפְלְאוֹתֶיךָ	אֲשִׁיחָה:	5
شان	جلال	تیری عزت کی	اور باتیں	تیرے عجائبوں کی	میں سوچوں گا	
H1926	H3519	H1935	H1697	H6381	H7878	

گا رہوں خیال محو میں معجزوں تیرے اور عظمت کی جلال شاندار تیرے میں

וְעֵזְוֵי	נִזְרָאתֶיךָ	יֵאמְרוּ	וְנִדְוָלָתֶיךָ	אֶסְפְּרֶנָה:	6
اور طاقت	تیرے خوفناک کاموں کی	وہ کہیں گے	اور تیری عظمت	میں بیان کروں گا	
H5807	H3372	H0559	H1420	H1420	

گا کروں بیان عظمت تیری بھی میں اور کریں، پیش قدرت کی کاموں ناک بیبت تیرے لوگ

זִכְר	רַב-	טוֹבָךָ	יִבְעֵנוּ	וְיִדְקָתֶךָ	יְרַנְנוּ:	7
یاد	بہتایت	تیری بھلائی کی	وہ اُبلیں گے	اور تیری راستی کو	وہ خوشی سے گائیں گے	
H2143		H2898	H5042	H6666		

کریں سرائی مدح کی راستی تیری سے خوشی اور سراہیں کو بھلائی بڑی تیری سے جوش وہ

חַנּוּן	וְרַחֲמִים	יְהוָה	אֶרְךָ	אֲפִים	וְנִדְל-	חֶסֶד:	8
مہربان	اور رحمدل	یہوواہ	طویل	غصے میں	اور بڑا	شفقت میں	
H2587	H7349	H3068	H0750	H0639			

ہے بھرپور سے شفقت اور تحمل وہ ہے رحیم اور مہربان رب

9 טוב- יהוה לְכֹל יְרַחֲמֵנוּ עַל- כָּל- מַעֲשָׂיו: 9
 اچھا- یہوواہ ل-سب-کے-لیے اور-اُس-کی-رحمتیں پر- سب- اُس-کے-کاموں-پر
 H3068 H3605 H4639 H3605

بے-کرتا رحم پر مخلوقات تمام اپنی وہ ہے، کرتا بھلائی ساتھ کے سب رب

10 יִזְרוּךְ יְהוָה כָּל- מַעֲשָׂיו וְחֲסִידָיו יִבְרַכְוֶה: 10
 وہ-تیری-حمد-کریں-گے یہوواہ سب- تیرے-کام اور-تیرے-پاکیزان تجھے-مبارک-کریں-گے
 H3034 H3068 H3605 H4639 H2623 H1288

کریں۔تمجید تیری دار ایمان تیرے کریں۔ شکر تیرا مخلوقات تمام تیری رب، اے

11 כְּבוֹד מְלֻכּוֹתָיָךְ יֵאמְרוּ וְגִבּוֹרָתָיָךְ יִדְבְּרוּ: 11
 جلال تیری-بادشاہی-کا وہ-کہیں-گے اور-تیری-قوت-کو وہ-بولیں-گے
 H3519 H4438 H0559 H1369 H1696

کریں بیان قدرت تیری اور کریں فخر پر جلال کے بادشاہی تیری وہ

12 וְלִהְיוּרֵיעַ לְבָנָיו הָאָדָם וְכַבֹּד וְגִבּוֹרָתוֹ אֲס-כֵּן אֲס-כֵּן אֲס-כֵּן מְלֻכּוֹתָיו: 12
 تاکہ-معلوم-کریں ل-بیٹوں آدم-کے اُس-کے-قوی-کام اور-جلال شان اُس-کی-بادشاہی-کا
 H3045 H0120 H1369 H3519 H1926 H4438

جائیں۔ہو آگاہ سے شوکت و شان جلالی کی بادشاہی تیری اور کاموں قوی تیرے زاد آدم تاکہ

13 מְלֻכּוֹתֶיךָ מְלֻכּוֹת כָּל- עַלְמִים וּמִמְשָׁלְתֶיךָ בְּכָל- דָּוָר וְדָוָר: 13
 تیری-بادشاہی بادشاہی سب- دہروں-کی اور-تیری-حکومت ب-ہر- نسل اور-نسل
 H4438 H4438 H3605 H5769 H4475 H1755 H1755

گی۔ریے قائم تک ہمیشہ پشت در پشت سلطنت تیری اور نہیں، انتہا کوئی کی بادشاہی تیری

14 סוּמְרָא דִּינָא יְהוָה לְכָל- הַזְּפָלִים וְזוֹקֵךְ לְכָל- הַכְּפוּפִים: 14
 سہارا-دینا-بے یہوواہ ل-سب- گرنے-والوں-کو اور-سیدھا-کرتا-بے ل-سب- جھکے-ہوئوں-کو
 H5564 H3068 H3605 H5307 H2210 H3605 H3721

بے-کرتا کھڑا اٹھا وہ اُسے جائے دب بھی جو ہے۔ سہارا کا والوں گرنے تمام رب

15 עֵינַי- כָּל- אֵלֶיךָ יִשְׁבְּרוּ וְאַתָּה נֹתֵן- לָהֶם אֵת- אֲכָלָם בְּעֵתוֹ: 15
 آنکھیں- سب-کی تیری-طرف تکتی-ہیں اور-ٹو دیتا-ہے ل-انہیں کو- اُن-کا-کھانا ب-اُس-کے-وقت-پر
 H0413 H3605 H5414 H1992 H0853 H0400 H6256

بے-کرتا مہیا کھانا کا اُس پر وقت کو ایک ہر ٹو اور ہیں، رہتی میں انتظار تیرے آنکھیں کی سب

16 פוֹתַח כְּפוּלָה יְהוָה יְהוָה וּמִשְׁבֵּיעַ לְכָל- חַי וְרוּחַ חַי: 16
 کھولتا-ہے کو- تیرا-ہاتھ اور-سیر-کرتا-ہے ل-ہر- زندہ-کو خواہش-سے
 H0853 H3027 H7646 H3605 H7522

بے-کرتا پوری خواہش کی جاندار ہر کر کھول مٹھی اپنی ٹو

17 צְדִיק יְהוָה בְּכָל- דְּרָכָיו יְחִסֵּד וְחֲסִידָיו יִשְׂמְחוּ: 17
 راست یہوواہ ب-سب- اُس-کی-راہوں-میں اور-شفیق ب-سب- اُس-کے-کاموں-میں
 H6662 H3068 H3605 H1870 H2623 H3605 H4639

بے-وفادار میں کاموں تمام اپنے اور راست میں راہوں تمام اپنی رب

18 קָרֹב יְהוָה לְכָל- קָרְאָיו לְכָל- יִקְרָאָהוּ בְּאֵמָתוֹ: 18
 قریب یہوواہ ل-سب- اُسے-پکارنے-والوں-کے ل-سب- جو اُسے-پکارتے-ہیں ب-سجائی
 H7138 H3068 H3605 H7121 H3605 H0571

ہیں۔پکارتے اُسے سے داری دیانت جو ہیں، پکارتے اُسے جو بے قریب کے سب اُن رب

19	רְצוֹן - خواہش -	יְרֵאָיו اُس سے ڈرنے والوں کی	יְעֲשֶׂה وہ پوری کرے گا	וְאֵת - اور کو -	שׁוֹעֲתָם اُن کی فریاد	אֲשִׁמְעֶה وہ سنے گا	וַיִּזְשִׁיעֵם: اور انہیں بچائے گا
	H7522	H3373	H0853	H0853	H7775	H8085	H3467

بے کرتا مدد کی اُن کر سن فریادیں کی اُن وہ ہے۔ کرتا پوری وہ آرزو کی اُن مانیں خوف کا اُس جو

20	שׁוֹמֵר حفاظت کرتا ہے	יְהוּוָה یہوواہ	אֶת - کو -	כָּל - سب -	אֲהַבְבִּיו اُس سے محبت کرنے والوں کی	וְאֵת اور کو	כָּל - سب -	הַרְשָׁעִים شریروں کو
	H8104	H3068	H0853	H3605	H0157	H0853	H3605	H7563

יְשׁוּמֵד:
وہ ہلاک کرے گا
[H8045](#)

بے کرتا ہلاک وہ کو بے دینوں لیکن ہیں، کرتے پیار اُسے جو بے رکھتا محفوظ کو سب اُن رب

21	תְּהַלֵּל حمد -	יְהוּוָה یہوواہ کی	יִדְבָּר - بولے گا -	פִּי میرا منہ	וַיְבָרֵךְ اور مبارک کرے	כָּל - سب -	בְּשָׂר جسم	שָׁם نام	קָדְשׁוֹ اُس کی پاکیزگی کے	לְעוֹלָם لی ہمیشہ
	H8416	H3068	H1696	H6310	H1288	H3605	H1320	H8034	H6944	H5769

וְעַד:
اور ابد
[H5703](#)

کریں۔ ستائش کی نام مُقَدَّس کے اُس تک ہمیشہ مخلوقات تمام کرے، بیان تعریف کی رب منہ میرا